



ایک آدمی نے کسی عورت کو بوسہ لیا اور آپ کے پاس آیا اور آپ کو اس کے بارے میں بتایا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت کو بوسہ لیا (احساس ندامت سے مغلوب ہو کر) اور آپ کے پاس آیا اور آپ کو اس کے بارے میں بتایا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (ہود: 114) ”دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کئی گھڑیوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں“ اس شخص نے پوچھا کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ میری ساری کی ساری امت کے لیے ہے“ [صحیح] [متفق علیہ]

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے ایک شخص جس کا نام ابویسر تھا ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے بیٹھا اور پھر اپنی اس غلطی پر پشیمان ہو کر نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جو کچھ ہوا تھا وہ سب آپ کو بتا دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ یعنی حکم دیا کہ دن کے دونوں اطراف میں جو نمازیں ہیں یعنی صبح، ظہر اور عصر انہیں ادا کرو اور وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ یعنی دو نمازیں بھی پڑھو جو رات کے ابتدائی حصے میں آتی ہیں یعنی مغرب و عشاء اور فرمایا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ یعنی یہ پانچ نمازیں صغیر گناہوں کا کفار بن جاتی ہیں اور تو نے جو گناہ کیا وہ انہی میں سے ہے اس پر اس شخص نے سوال کیا کہ کیا یہ نمازیں صرف میرے لیے کفار ہیں یا سب لوگوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری پوری امت کے لیے ہے، یعنی میری امت میں سے جو بھی اس طرح کا کوئی کام کر بیٹھے گا اس کے لیے یہ پانچ نمازیں کفار بن جائیں گی ایک دوسری روایت میں ہے: کوئی بھی مسلمان اگر کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے یہ کہہ کر آپ نے قرآن پاک کی دو آیتیں تلاوت کیں وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ”جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا“ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ... ”جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے...“ (مسند احمد: 47) یہ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کشادگی کی دلیل ہے کہ اس نے پانچ فرض نمازوں اور نفلی نمازوں کو ان کے گناہوں کا کفار بنا دیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ہلاک ہو جاتے۔



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

